



سوال

(52) ایک امام دوسرے امام کو کم تنخواہ دے کر امام رکھ سکتا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بر منگھم سے محمد امین لکھتے ہیں

(۱) ایک امام صاحب کو اگر ایک مسجد کی طرف سے نمازیں اوبچے پڑھانے کے عوض معقول معاوضہ دیا جا رہا ہو اور وہ امام صاحب خفیہ طریقے سے کسی اور ادارے سے بھی معاوضہ منظور کروالیں تو ان کا یہ فعل جائز ہے اور وہ امامت کے قابل ہیں؟

(۲) ایک امام صاحب کو مثلاً ڈیڑھ سو پاؤنڈ ماہوار تنخواہ ملتی ہے وہ کچھ عرصے کے لئے پاکستان جاتے ہیں اور اپنی جگہ ایک اور امام مقرر کرتے ہیں اور ان کو وہ سو پاؤنڈ دیتے ہیں۔ ۵۰ پاؤنڈ پہلے امام صاحب خود رکھ لیتے ہیں۔ کیا ان کا یہ فعل جائز ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

امام صاحب اگر کسی دوسرے ادارے سے جھوٹ یا غلط بیانی کر کے کوئی رقم یا تنخواہ منظور کر لیتے ہیں یہ جائز نہ ہوگا۔ لیکن اگر ان کی خدمات کے صلے میں کوئی ادارہ ان کی مزید تنخواہ مقرر کرتا ہے مسجد کمیٹی کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہ ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

(۲) اگر امام صاحب اپنی طرف سے اپنی عدم موجودگی میں جو امام مقرر کر کے گئے ہیں، مسجد کی انتظامیہ اسے قبول کر لیتی ہے اور تنخواہ وغیرہ کا مسئلہ وہ امام صاحب پر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ پوری دیں یا آدھی یا بالکل کچھ نہ دیں۔ مسجد کمیٹی کو اس سے کوئی سروکار نہ ہو تو پھر امام صاحب کا یہ فعل جائز ہوگا اور اگر کمیٹی سے یہ کہا کہ میں اسے پوری تنخواہ دیتا ہوں مگر پچاس پاؤنڈ خود رکھ لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں اور جو شخص، جھوٹ یا دھوکہ بازی میں ملوث پایا جائے اسے مستقل امام نہیں بنانا چاہیے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ صراط مستقیم



ص 158

محدث فتویٰ